

بینک الحیب لمیٹڈ
شیڈیول آف چارجز
(اسلامک بینکنگ)

یکم جنوری 2022 سے 30 جون 2022 تک

بین الاقوامی بینکاری

A. درآمدات

I کیش لیٹرز آف کریڈٹ

AA. اوپننگ

سالانہ حجم تقویمی سال کے دوران کاروباری تعہد:

a. 10 ملین روپے تک

b. 10 ملین روپے سے زائد سے 100 ملین تک

c. 100 ملین سے زیادہ

پہلی سہ ماہی	اس کے بعد ہر سہ ماہی کے اختتام پر یا کچھ حصے میں
0.40 فیصد	0.25 فیصد
0.30 فیصد	0.18 فیصد
0.17 فیصد	0.10 فیصد

کم از کم 2100 روپے

نوٹ: مندرجہ بالا چارجز، (کاروباری فوائد/ معاہدوں کے سلسلے میں ہونے والے ایڈجسٹمنٹ جو کہ مجاز عہدے دار سے منظور شدہ ہو)، سے مشروط ہیں۔

AB. زائد المیعا دایل سیر کی توثیق نو یا نئے بینیفشری کو منتقل کرنا

II ترامیم:

a. اگر رقم اور/یا مدت ملوث نہ ہو

b. اگر رقم اور/یا مدت میں اضافہ ملوث ہو

III ایل سی کی منسوخی کے چارجز

IV ریٹائرمنٹ:

1 ایل سی مراحمہ پر بروقت منافع (ذاتی ذریعے سے ایل سی کی سبکدوشی)

2 یوزننس بلز:

وقت ادا نیگی پر

ایل سی/ معاہدہ کے تحت یوزننس بلز کی معیاد ادا نیگی میں اضافہ

3 سائٹ:

4 ایل سی سائٹ پر پی اے ڈی پر منافع *

(*) اس سہولت سے مستفید ہونے والے صارفین سے بنیادی فنڈ ڈسہولیات کی شرح وصول کی جائے گی) 3 ماہ اوسط (KIBOR(ASK) +3 فیصد سالانہ

V وصولی کے لیے انورڈ/ غیر ملکی دستاویزی بلز:

a. تمام انورڈ کلیمیشن/ اوپن اکاؤنٹ پر پینڈنگ چارجز

b. بناد ادا نیگی، واپس کیے دستاویزات/ بشمول کوریئر چارجز

c. تمام غیر ملکی بلز کی وصولیابی بشمول معاہدہ ادا نیگی/ ریٹائرمنٹ/ اوپن اکاؤنٹ

d سوئفٹ چارجز

VI درآمدات کے مقابل پیشگی ادا نیگی

a. سوئفٹ ٹرانسفر

b. ڈیمانڈ ڈرافٹس

c. سروس چارجز

1500 روپے

500 روپے

کم از کم 1500 روپے علاوہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر/ سوئفٹ چارجز

1000 روپے (اوپر دیئے گئے پوائنٹ نمبر Va, Vb اور Vc پر لاگو ہیں۔)

ii. اگر نرم اور / یا مدت میں اضافہ شامل ہو

1000 روپے علاوہ درج بالا VIII-a کے مطابق کمیشن

c. تصدیق

کم از کم 1250 روپے یا 0.40 فیصد فی سہ ماہی۔ کیس کے لحاظ سے جو بھی زیادہ ہو

0.10 فیصد کی شرح پر کم از کم 1250 روپے

والی آمدنی کے عوض ہینڈ لنگ اور سروس چارجز

XIX اور ڈیو ایکسپورٹ بلز پورنگ کی بینڈ لنگ اور سروس
XX ایکسپورٹ ری فنانس درخواست کیلئے بینڈ لنگ چارجز
XXI ڈیوٹی ڈرایبک کلیمز کی بینڈ لنگ (ڈی ایل ٹی ایل) / ٹیکسٹائل / نان۔ ٹیکسٹائل
بینڈ لنگ چارجز (اکٹریمینٹل اسکیمز)

XXII گندم، گندم کے آٹے، شکر اور ٹیکسٹائل / نان۔ ٹیکسٹائل اور دیگر سبسڈیز کی برآمدات

XXIII کلکیشن دستاویزات کے بارے میں بات چیت کے لئے دیگر بینکوں کے نام

XXIV بی / ایل سے سبکدوش ہونے پر / بی ایل کی گمشدگی پر شپنگ کمپنیوں کو این اوسی کا اجراء
XXV دوسرے بینک کو برآمد کی کارروائیوں کی منتقلی، جہاں ہماری جانب سے کسی
دستاویزات کی بینڈ لنگ نہیں کی گئی

XXVI ایل ٹی ایف ایف (ایس بی پی) درخواستوں کی بینڈ لنگ

XXVII ایکسپورٹ ڈاکیومنٹ ریٹرن کی عدم ادائیگی پر

XXVIII ایکسپورٹ ایڈوائس پیمنٹ کے چارجز، ایسی صورت میں جن میں اسٹیٹ بینک

XXIX WEBOC پر تصدیق کی تاریخ کے 45 دن کے بعد ای ایف ای کی منیج

XXX ڈپازٹس کی ایکسپورٹ / فارن کرنسی نوٹ جمع کرانے کے عوض چارجز

C. وصولی (غیر ملکی کرنسی)

I بیرونی

a. کلین بلز

b. بنادائیگی واپس شدہ چیکس

c. مقامی یو ایس ڈالر کی وصولی

d. مقامی یو ایس ڈالر کی وصولی کے واپس شدہ چارجز

II انورڈ

کلین کلکیشن

یو ایس ڈالر 5 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی علاوہ کوریئر چارجز

ریٹرننگ بینک کے اصل چارجز علاوہ یو ایس ڈالر 5 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی علاوہ کوریئر چارجز

-/400 روپے فی انسٹرومنٹ

-/500 روپے فی انسٹرومنٹ

پاکستانی روپے کی صورت میں، 200 روپے

غیر ملکی کرنسی کی صورت میں، یو ایس ڈالر 5 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی

D. ترسیلات - غیر ملکی

I آؤٹ ورڈ

a. ڈیمانڈ ڈرافٹس DD

b. سوئفٹ / TT

c. FDD کی منسوخی

d. FDD/FTT کی ادائیگی روکنا

یو ایس ڈالر 18

یو ایس ڈالر 35

یو ایس ڈالر 10

یو ایس ڈالر 6 علاوہ اصل پر غیر ملکی بینک کے چارجز

II اندرونی

a. ڈی ڈی / ٹی ٹی / ایم ٹی

کوئی چارجز نہیں، اگر رقم بینک کے پاس موجود اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائیں تو بصورت
دیگر 300 روپے وصول کیے جائیں گے۔

E. متفرقات:

I خطوط کے چارجز

II پوسٹنج / کوریئر / سوئفٹ چارجز کی وصولی کی تفصیلات درج ذیل کی جائیگی:

اصل

پوسٹنج

کوریئر

200 روپے

i. 2300 روپے

ii. جہاں کمپنی کی جانب سے صارف کے اکاؤنٹ سے براہ راست کوریئر چارجز کی کٹوتی کی جائے تو بطور سروس چارجز 150 روپے وصول کئے جائیں گے

1000 روپے فی پیغام

سوئفٹ

ہر صارف سے 60 امریکی ڈالر یا اس کے مساوی پاکستانی روپے وصول کیے جائیں گے

III غیر ملکی خریداروں / سپلائرز پر کریڈٹ رپورٹ

275 روپے

1500 روپے فی کیس

IV دیگر بینکوں سے ٹیسٹ کی تصدیق کے چارجز:

V غیر ملکی زرمبادلہ کی ٹرانزیکشنز کی ترسیلات زر کیلئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے منظوری کیلئے،

جہاں ضرورت ہو

اندرون ملک بینکاری

A. ترسیلات زر:

300 روپے (تعلیمی اداروں / ہائر ایجوکیشن کمیشن / بورڈز وغیرہ کے نام بینکر چیک / ڈی ڈی / ادائیگی کیلئے دیگر متعلقہ انسٹرمنٹس کی کوئی فیس / واجبات نہیں ہے)

a. I بینکرز چیک کا اجراء

b. ڈرافٹس، ایم بی، ٹی ٹی کا اجراء

i. ہمارے خطوط کے ذریعے وصولی پر ادائیگی

c. فیکس / ٹی ٹی پر سوئفٹ چارجز

d. پوسٹنج

e. منتقلی بذریعہ آئی بی سی اے (IBCA)

f. آن لائن کیش جمع کرنا / رقم نکالنا

0.12 فیصد - کم از کم 225 روپے

150 روپے

25 روپے فی آئٹم

کوئی چارجز نہیں

کوئی چارجز نہیں (اندرون اور بیرون شہر)

400 روپے

200 روپے

200 روپے

400 روپے

II ڈی ڈی / پی او / بینکرز چیک کی منسوخی کے چارجز

III ڈی ڈی کی ادائیگی روکنا

IV ڈپلکیٹ ڈیمانڈ ڈرافٹ

V ڈپلکیٹ بینکرز چیک

B. اندرون ملک تجارت

I اندرون ملک لیٹرز آف کریڈٹ

(i) ایل سی کھلنے کا کمیشن

(ii) لوکل ایل / سی کے تحت ادا کیے گئے بلز کی ریٹائرمنٹ

II اندرون ملک ناقص ایل سی دستاویزات کی تصحیح (درستگی) کے چارجز

III ایل سیز میں ترمیم

a. اگر رقم اور / یا مدت شامل نہ ہو

b. اگر مدت شامل ہو

c. اگر رقم میں اضافہ شامل ہو

0.50 فیصد فی سہ ماہی اور بعد کی سہ ماہیوں کے لیے 0.35 فیصد کم از کم 1800 روپے

ریٹائرمنٹ پر 0.05 فیصد

1200 روپے

1500 روپے

1500 روپے علاوہ کمیشن 0.35 فیصد بعد کی سہ ماہی کے لیے

جیسا کہ اوپر (b) میں بیان کیا گیا ہے۔

a. دستاویزی (IDBC اور LDBC)

b. کلین (بشمول چیکس)

c. رجسٹریشن / اسٹینڈرڈ پریچر آرڈر کی (S.P.O) ادائیگی پر انتظامی چارجز

V بغیر ادائیگی واپس شدہ مقامی بلز

500 روپے

VI متفرق چارجز : درج ذیل کے مطابق جہاں قابل اطلاق ہوں (درج بالا IV-I) درج

ذیل زائد چارجز ہوں گے:

a. وصول کرنے والے کے بینک چارجز (اگر وصول کرنے والا بینک، بینک الحیب لمیٹڈ کے علاوہ کوئی دوسرا ہو)

b. بذریعہ فون / فیکس انسٹرومنٹس کی معلومات

50 روپے

c. انسٹرومنٹ واپس کرنے کے چارجز

دستاویزات کی وصولی کے لیے

کلین وصولی کے لیے

d. اسٹورج کرنے کے چارجز

e. کوریئر چارجز:

. بینک الحیب کی برانچوں کے لیے

60 روپے

. دیگر بینکوں کے لیے

125 روپے

C. فنانسنگ / ایڈوانسز

I منافع بشمول درج ذیل اضافی چارجز لیے جائیں گے:

- منصوبے پر عمل درآمد اور جائزہ فیس

- قانونی اور انتظامی فیس

- متفرق چارجز (سیکیورٹی اور مینٹنس کا جائزہ)

II رہن / ہاپوٹھیکیشن پرفنانس کے لیے

درج ذیل نافذ ہو سکتے ہیں:

a. گودام کا کرایہ

اصل

b. گودام کے اسٹاف کی تنخواہیں اور مقدم چارجز

اصل

c. گودام کے معائنے کے چارجز:

i. شہری حدود کے اندر

ii. شہری حدود کے باہر

d. رہن کے تحت تمام اشیاء پر ڈیلیوری آرڈر کا اجراء

صارف کے ساتھ معاہدے کے مطابق کیس کی بنیاد پر

اصل پر یا صارف کے ساتھ معاہدے کے مطابق کیس کی بنیاد پر

اصل پر یا صارف کے ساتھ معاہدے کے مطابق کیس کی بنیاد پر

پیٹنگی انتظام کے مطابق

اصل

اصل

اصل کی ترسیل کے چارجز علاوہ 400 روپے

توانین کے مطابق فی اے اور ڈی اے علاوہ 400 روپے

100 روپے فی ڈیلیوری آرڈر

e. اسٹاک کا معائنہ: (بینک کے ذمہ نہیں ہے)

i اگر یہ معائنہ بینک کی جانب سے مقرر کردہ ایجنٹس کریں

ii اگر یہ معائنہ بینک کا اسٹاف کرے

i شہری حدود کے اندر

ii شہری حدود کے باہر

1000 روپے

2000 روپے فی معائنہ (30 سے 45 دن کے اندر زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ معائنہ)

نوٹ: بینک کے ایگزیکٹو/ایکسٹرنل اور انٹرنل آڈیٹرز کی جانب سے گودام پر کبھی کبھار چانک معائنہ کی صورت میں چارجز نہیں ہونگے

اصل

f. (i) دیگر ضمنی اخراجات، بیمہ کارپریٹیم

(ii) قانونی چارجز:

. اندرونی قانونی معاونت:

2000 روپے فی دستاویز

. جائیداد کی دستاویزات کی نظر ثانی

500 روپے

. دیگر اداروں کی طرف سے جاری کردہ سکیورٹیز پر استحقاق کی نوٹنگ

اصل

. بیرونی قانونی معاونت:

200 روپے چارجز فی ڈیلیوری

g. تمام پلچ گڈز پر ڈیلیوری آرڈر چارجز

100 روپے فی رپورٹ

III CIB رپورٹ چارجز

IV مزید پروجیکٹس کیلئے انکے فلسفہ اور کرنٹ اثاثہ جات کے حصول کیلئے اضافی/مساوی چارجز/

-/3750 روپے فلیٹ فی NOC

سینڈ چارج صارفین/کلائنٹس کی درخواست پر NOC کا اجراء (صارف کی درخواست پر)

V اگر بینک کے افسران کو رہن کی واپسی کیلئے رجسٹرار کے پاس جانا ہو تو ایسی صورت میں

ریڈمپشن فیس پارٹی سے وصول کی جائے گی

-/2500 روپے فلیٹ فی جائیداد بشمول قانونی/وینڈرفیس

VI سکیورٹی آف ایکسچینج کمیشن (ایس ای سی پی) سے رجسٹریشن/ترمیم/سیٹیفیکیشن/دیکشین

اصل

آف چارج اور ڈائریکٹر/چارج سرچ/سی ٹی سی وغیرہ

VII کنٹرول اینڈ سکیورٹی دستاویزات پر اسٹیمپ ڈیوٹی ہر صوبے میں لاگو اسٹیمپ ڈیوٹی ایکٹ کے

اسٹیمپ پیپر/چکنے والے ڈاک ٹکٹ کی اصل قیمت پر

مطابق

D. اجارہ/مُرائعہ/استصناع:

اصل

I. کارپوریٹ اجارہ/مُرائعہ/استصناع کی دستاویز کی تیاری اور کارروائی

اصل

II. کنزیومر اجارہ/مُرائعہ/استصناع کی دستاویز کی تیاری اور کارروائی

اصل

III. معائنہ کے چارجز

E. شرکت متناقصہ

اصل

i. دستاویز کی تیاری اور کارروائی

کوئی چارجز نہیں

ii. قبل ادائیگی کے چارجز

F. ضمانتیں

- I بل آف لیڈنگ / ایئر کنسائنمنٹ نوٹس کے بدلے میں شپنگ کمپنیز / ایئر لائنز کو جاری کردہ 1900 روپے فلیٹ ضمانتیں
- II ڈیوٹی کی ادائیگیوں کے بدلے میں کسٹم کے کلیکٹر کو جاری کردہ ضمانتیں
- III دیگر ضمانتیں
- IV برآمدی آمدنی پر دہولڈنگ ٹیکس سے مستثنیٰ ہونے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جاری کردہ ضمانتیں 500 روپے فلیٹ
- V دیگر ضمانتیں بشمول موخر ادائیگیوں کی گارنٹی سپلائر یا بائزر کریڈٹ / وصول کنندہ اسکیم کے تحت
- VI ضمانتی خط کے متن میں ترمیم (اگر رقم اور مدت وہی رہے گی)
- VII SWIFT ایل جی ایڈوانسنگ چارجز کی وصولی

ترمیمی کمیشن 850 روپے
1,000 روپے بشمول ایف ای ڈی

نوٹس:

رقم میں اضافہ ہو یا معینہ مدت میں، یکساں چارجز قابل اطلاق ہونگے۔
ضمانت جاری ہونے کی تاریخ سے لے کر ضمانت کی میعاد ختم ہونے تک گارنٹی کمیشن وصول کیا جائے گا

G کیش پیمنٹ سرورسز

- i. ملک بھر میں کلکیشن سولوشنز
- ii. بلک سیلیرز / ادائیگیاں
- iii. ڈیویڈنڈ ورنٹس کی ادائیگی کا انتظام
- iv. کسٹمرز ڈائیم آئی ایس / رپورٹنگ
- v. دیگر کوئی بھی شریعت پر مبنی سرگرمی
- vi. الحبيب پیمنٹ سسٹم (بلک پیمنٹس)

معاهدے کے مطابق
معاهدے کے مطابق
معاهدے کے مطابق
معاهدے کے مطابق
معاهدے کے مطابق
معاهدے کے مطابق

H متفرق چارجز

1. چیکس کی ادائیگی روکنا
2. لوڈ چیکس کا اجراء
3. بینک کو چیک وصول ہوں اور نا کافی رقم کے سبب بنا ادائیگی واپس کر دیئے جائیں
4. اسٹیٹنگ انسٹرکشن چارجز (پینشنر اکاؤنٹ کے لیے کوئی چارج نہیں)
5. صارف کی درخواست پر ادائیگی کے حوالے سے اعتباری سرٹیفکیٹ کا اجراء
6. صارف کی درخواست پر اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کا اجراء (اگر صارف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھیجی گئی اسٹیٹمنٹ وصول نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی چارج نہیں لیے جائیں گے)
- (i) 6 ماہ تک کی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ 35 روپے
- (ii) 6 ماہ سے زائد عرصے کا اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ 35 روپے اضافی

7. اُسی دن، چیکس کلیئر ہونے کے چارجز
8. اُسی دن چیکس کلیئر کرنے یا رقم ہونے کی صورت میں واپس کرنے کے چارجز
9. آن لائن، چیک واپس ہونے پر چارجز
10. ادا کردہ چیکس کی فوٹو کاپیاں
11. ادا کردہ چیکس کی تصدیق کے حوالے سے سرٹیفکیٹ کا اجراء
12. CDC چارجز
13. چیک بک کے چارجز
14. اکاؤنٹ مینینس سرٹیفکیٹ
15. انٹرنیٹ چیکس کی وصولی بذریعہ این آئی ایف ٹی
16. اندرون شہر، چیک کی واپسی کے چارجز
17. ایس ایم ایس الرٹ سروس
18. سی ڈی آر کے اجراء کے چارجز
19. سی ڈی آر کی ڈیپلکیٹ کے چارجز
20. سی ڈی آر کی منسوخی کے چارجز
21. بیرون ملک ملازمت کا سرٹیفکیٹ
22. بذریعہ بریزم سسٹم تیسرے فریق کے فنڈز منتقلی کا تصفیہ
- کم قیمت کی حد 1,000,000 روپے اور اس سے زیادہ
- پیرتا جمعہ صبح 9:00 سے دوپہر 1:30 بجے
- دوپہر 1:30 سے سہ پہر 3:00 بجے
- سہ پہر 3:00 سے شام 4:00 بجے
- کم قیمت کی حد 100,000 روپے
- پیرتا جمعہ صبح 9:00 سے شام 4:30 بجے
23. ایکسپریس چیک بک (10 صفحات)
24. سرٹیفکیٹ آف بیلنس
25. پرانے ریکارڈز کے حصول کیلئے
26. اسٹیٹ بینک آف پاکستان/نیشنل بینک آف پاکستان/اسپیشل کلیئرنگ (صرف صارف کی درخواست پر) کے چیکس کا اجراء
27. SECP آن لائن پورٹل سروس چارجز
- 500 روپے فلیٹ
- 600 روپے یا اکاؤنٹ میں 600 روپے سے کم جتنی بھی رقم ہو
- کوئی چارجز نہیں
- 120 روپے فی چیک
- 100 روپے
- اصل
- 15 روپے فی لیف (چیک بک کے معاوضے سے استثنیٰ کیلئے صارف کو اپنا اوسط ماہانہ بیلنس 25000 روپے میں ٹھہرنا ہوگا)
- 300 روپے فی سرٹیفکیٹ
- 300 روپے فی انسٹرومنٹ
- 600 روپے فی انسٹرومنٹ
- 90 روپے فی مہینہ فی اکاؤنٹ
- کوئی چارجز نہیں
- کوئی چارجز نہیں
- 300 روپے
- 100 روپے فی سرٹیفکیٹ
- 220 روپے
- 330 روپے
- 550 روپے
- 50 روپے فی ٹرانزیکشن زیادہ سے زیادہ 10 انسٹرومنٹس بھیجی جاتی ہیں (ایک ایم ٹی 102 میج کے ذریعے)
- 250 روپے
- 250 روپے فی سرٹیفکیٹ
- 1 سال تک 250 روپے
- 2 سال تک 350 روپے
- 3 سال تک 450 روپے
- 3 سال سے زیادہ 650 روپے
- 500 روپے
- پرائیویٹ کمپنیز 1100 روپے، پبلک کمپنیز 2000 روپے

- I. لاکر کی سہولیات
- a. سالانہ کرایہ (لاکر کا سالانہ کرایہ موجودہ اور نئے صارفین سے مدت کے آغاز پر پیشگی وصول کیا جائے گا)
- b. لاکر تروانے کے چارجز
- c. لاکر کی چابی اور لاکر کی تبدیلی
- متبادل ترسیل چینل (ای ڈی سی)
- A- فنڈز منتقل کرنے کی سہولت
- انٹرنیٹ فنڈز ٹرانسفر بذریعہ ای ڈی ایم/انٹرنیٹ/موبائل بینکنگ
- مفت آئی بی ایف ٹی۔ 25,000 روپے تک فی مہینہ/فی اکاؤنٹ۔
- 25,000 روپے ماہانہ سے زائد اضافی رقم کیلئے/فی اکاؤنٹ، لیکن دین کی رقم کا 0.1 فیصد یا 200 روپے، جو بھی کم ہو چارج کیا جائے گا۔

B. اے ٹی ایم

100 روپے

18.75 روپے فی ٹرانزیکشن
2.50 روپے فی ٹرانزیکشن
2.50 روپے فی ٹرانزیکشن

سلور کارڈ کیلئے 1400 روپے، گولڈ کارڈ کیلئے 1750 روپے اور پلاٹینم کارڈ کیلئے 4000 روپے
سلور کارڈ کیلئے 800 روپے، گولڈ کارڈ کیلئے 1000 روپے اور پلاٹینم کارڈ کیلئے 2000 روپے
ٹرانزیکشن کی رقم کا 3.5 فیصد

اصل

اصل

اصل

اصل

200 روپے

اصل

ٹرانزیکشن کی رقم پر 3.5 فیصد

a. اے ٹی ایم پن کا دوبارہ اجراء

b. اے ٹی ایم سوچ ٹرانزیکشنز

(i) دیگر بینکوں کے اے ٹی ایم سے کیش نکلوانے پر

(ii) مقامی بینکس کی معلوم کرنے کے چارجز

(iii) اے ٹی ایم رسید کی پرنٹنگ کی صورت میں فیس

C. ویزہ ڈیپٹ کارڈ

a. سالانہ / اجراء / تجدید / متبادل کارڈ کی فیس - بنیادی

b. سالانہ / اجراء / تجدید / متبادل کارڈ کی فیس - ضمنی

c. اے ٹی ایم بین الاقوامی کیش وڈرال

d. بین الاقوامی ریٹیل پر چہرہ اور ای - کامرس ٹرانزیکشن

e. بین الاقوامی سطح پر چارج واپسی کی درخواست پر چارجز

f. مقامی سطح پر وصولی کی درخواست پر چارجز

g. بین الاقوامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز

h. بین الاقوامی سطح پر بینکس انکوائری چارجز

i. ویزا آر بیٹیشن چارجز

j. بین الاقوامی ریٹیل خریداری اور ای - کامرس ٹرانزیکشن

D. موبائل بینکنگ

100 روپے

موبائل بینکنگ پن کا دوبارہ اجراء

E. چائنا یونین بے

1250 روپے

750 روپے

ٹرانزیکشن کی رقم کا 3.5 فیصد

200 روپے

ٹرانزیکشن کی رقم پر 3.5 فیصد

اصل

اصل

اصل

اصل

a. سالانہ / اجراء / تجدید / متبادل کارڈ کی فیس - بنیادی

b. سالانہ / اجراء / تجدید / متبادل کارڈ کی فیس - ضمنی

c. بین الاقوامی سطح پر اے ٹی ایم کیش وڈرال

d. بین الاقوامی سطح پر بینکس انکوائری

e. بین الاقوامی ریٹیل خریداری اور ای - کامرس ٹرانزیکشن

f. مقامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز

g. بین الاقوامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز

h. مقامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز

i. بین الاقوامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز

F یوٹیلیٹی بلز اور دیگر ادائیگیوں پر چارجز

ڈائریکٹ ڈیبٹ کی سہولت

25 روپے

25 روپے

a. ہر کامیاب ٹرانزیکشن پر

b. ناکافی فنڈز کی وجہ سے ناکامیاب ٹرانزیکشن

G پے پاک

900 روپے

اصل

اصل

a. سالانہ / اجراء / تجدید / متبادل کارڈ کی فیس - بنیادی

b. لوکل چارج بیک کی درخواست کے چارجز

c. لوکل ریٹریول درخواست کے چارجز

نوٹ * - پے پاک ڈیبٹ کارڈ کے مفت اجراء / سالانہ / تجدید کی فیس کے لئے، صارف کا اکاؤنٹ کھلنے کے بعد اگلے کیلنڈر ماہ میں -/25,000 روپے اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا، درج ذیل کے مطابق:

i. نئے اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے، کوئی پی یو سے اکاؤنٹ کھلنے کے بعد اگلے کیلنڈر ماہ میں -/25,000 روپے اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا۔ (جب اکاؤنٹ کھولنے کے فارم کے ذریعے درخواست شروع کی جائے گی تو یہ قابل اطلاق ہوگا)۔

ii - موجودہ اکاؤنٹ ہولڈرز کو پچھلے کیلنڈر مہینے میں 25,000 ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا، اگر سی پی یو سے درخواست پر کارروائی کے بعد پچھلے مہینے (یعنی 30 دن) کی مدت پوری نہیں ہوتی ہے تو اگلے کیلنڈر مہینے میں ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھا جانا چاہیے۔ (یہ اس وقت لاگو ہوگا جب الیکٹرانک درخواست فارم / کال سینٹر کے ذریعے ڈیبٹ کارڈ کے لیے درخواست کی جائے گی)۔

iii - پے پاک ڈیبٹ کارڈ چارجز ان اکاؤنٹس پر لاگو نہیں ہوں گے جن میں بینک نے چارجز سے استثنیٰ دیا ہو۔

کنزرویمر بینکنگ پروڈکٹس

A آٹو فنانسنگ کی سہولت (اپنی کارڈی ایم)

a. پرو سیٹنگ فیس

(i) نئی گاڑیاں

(ii) درآمد شدہ / مرمت شدہ اور استعمال شدہ گاڑیاں

b. اضافی نوٹس کی خریداری - اپنی کار

c. جلد ادائیگی کی فیس / چارجز اپنی کار

d. یونٹ (نوٹس) کی تاخیر سے خریدی

e. چیکس کے بغیر ادائیگی / واپس ہونے پر چارجز

f. قبضے میں لئے جانے پر چارجز (اندرون اور بیرون شہر)

g. گاڑی کے دوبارہ قبضے کی تشخیص کے چارجز

h. قانونی نوٹس کے چارجز

i. پرسنل حادثاتی انشورنس / تکافل

j. گاڑی کے معائنے / تشخیص کے چارجز

k. گاڑی کی رجسٹریشن / ٹرانسفر چارجز / سیکورڈ ٹرانزیکشن رجسٹری (ایس ٹی آر)

l. وینر ہاؤس چارجز

8,000 روپے فلیٹ

8,500 روپے فلیٹ

آفر لیٹر میں بیان کردہ شرائط و ضوابط کے مطابق

آفر لیٹر میں بیان کردہ شرائط و ضوابط کے مطابق

یونٹ (نوٹس) کی فی تاخیر خریداری 1000 روپے

500 روپے فی کیس

100,000 روپے یا اصل جو بھی کم ہو

اصل

اصل

کوئی چارجز نہیں

اصل

اصل

اصل پر جہاں لاگو ہو

B گورنمنٹ سبسطی اسکیم (GMSS) ہاؤسنگ فنانس کیلئے (میرا پاکستان میرا گھر)

- a. پروسیڈنگ فیس
 - b. جلد ادائیگی کی فیس / چارجز (پوری / جزوی)
 - c. یونٹ (یونٹس) کی تاخیر سے خریداری
 - d. چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز
 - e. جائیداد کی قیمت کے تخمینے کے چارجز
 - f. وکیل کی فیس
 - g. آمدنی کے تخمینے کے چارجز / فیس
 - h. دستاویزات / اسٹیٹمنٹ چارجز
 - i. کوریئر چارجز (فارن)
- ## C ہاؤسنگ فنانس فیسلٹی

- a. پروسیڈنگ فیس
- b. جلد ادائیگی کی فیس / چارجز (پوری / جزوی)
- c. یونٹ (یونٹس) کی تاخیر سے خریداری
- d. واپس ہو جانے والے چیک کے چارجز
- e. جائیداد کے معائنے / تشخیص کے چارجز
- f. وکیل کی فیس
- g. آمدنی کے تخمینے کے چارجز / فیس
- h. دستاویزات / اسٹیٹمنٹ چارجز
- i. کوریئر چارجز (فارن)

D-اسلامک روٹن اپنا گھر (بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کیلئے ہاؤس فنانس کی سہولت)

- a- پروسیڈنگ فیس
- b- یونٹ کی قبل از وقت خریداری (مکمل / جزوی)
- c- یونٹ کی تاخیر سے خریداری
- d- غلط / واپس کئے گئے چیکس کے چارجز
- e- پراپرٹی کے تخمینے / اپریزل کے چارجز
- f- وکیل کے چارجز
- g- آمدنی کے تخمینے کے چارجز / فیس
- h- دستاویزات کی تیاری اور مہر کے ڈیوٹی چارجز
- i- کوریئر چارجز (غیر ملکی)

نوٹ:

- حکومت کی جانب سے عائد کردہ تمام ٹیکسز / ایکسائز ڈیوٹی / ووہولڈنگ ٹیکس / ایف ای ڈی وغیرہ، جہاں قابل اطلاق ہو، صارفین سے عمومی چارجز کے ساتھ اضافی طور پر وصول کیے جائیں گے۔
- بینک یا علی کی غلطی کی وجہ سے عائد کردہ چارجز واپس کیے جائیں گے۔
- بینک ہر کسی کیس کی بنیاد پر چارجز سے دستبردار ہو سکتا ہے / چارجز کم کر سکتا ہے جس کا انحصار کاروبار کے حجم پر ہے۔
- آن لائن کیش ڈپازٹ / ووڈرال کے لئے آن لائن چارجز ہفتے کے دن چارج نہیں کیے جائیں گے۔

قبول کردہ چارجز کا شیڈیول
(اسلامک بینکنگ)

یکم جنوری 2022 سے 30 جون 2022 تک

ضمیمہ (انیکسز) "اے"

رقم کی حد	تک	فی ماہانہ چارجز یا اس کا حصہ
500,001.00	800,000.00	880.00
800,001.00	1,000,000.00	1,100.00
1,000,001.00	2,000,000.00	2,200.00
2,000,001.00	3,000,000.00	3,300.00
3,000,001.00	4,000,000.00	4,400.00
4,000,001.00	5,000,000.00	5,500.00
5,000,001.00	6,000,000.00	6,600.00
6,000,001.00	7,000,000.00	7,700.00
7,000,001.00	8,000,000.00	8,800.00
8,000,001.00	9,000,000.00	9,900.00
9,000,001.00	10,000,000.00	11,000.00
10,000,001.00	11,000,000.00	12,100.00
11,000,001.00	12,000,000.00	13,200.00
12,000,001.00	13,000,000.00	14,300.00
13,000,001.00	14,000,000.00	15,400.00
14,000,001.00	15,000,000.00	16,500.00
15,000,001.00	16,000,000.00	17,600.00
16,000,001.00	17,000,000.00	18,700.00
17,000,001.00	18,000,000.00	19,800.00
18,000,001.00	19,000,000.00	20,900.00
19,000,001.00	20,000,000.00	22,000.00
20,000,001.00	21,000,000.00	23,100.00
21,000,001.00	22,000,000.00	24,200.00
22,000,001.00	23,000,000.00	25,300.00
23,000,001.00	24,000,000.00	26,400.00
24,000,001.00	25,000,000.00	27,500.00
25,000,001.00	26,000,000.00	28,600.00
26,000,001.00	27,000,000.00	29,700.00
27,000,001.00	28,000,000.00	30,800.00
28,000,001.00	29,000,000.00	31,900.00
29,000,001.00	30,000,000.00	33,000.00
30,000,001.00	31,000,000.00	34,100.00
31,000,001.00	32,000,000.00	35,200.00
32,000,001.00	33,000,000.00	36,300.00
33,000,001.00	34,000,000.00	37,400.00
34,000,001.00	35,000,000.00	38,500.00
35,000,001.00	36,000,000.00	39,600.00
36,000,001.00	37,000,000.00	40,700.00
37,000,001.00	38,000,000.00	41,800.00
38,000,001.00	39,000,000.00	42,900.00
39,000,001.00	40,000,000.00	44,000.00
40,000,001.00	41,000,000.00	45,100.00
41,000,001.00	42,000,000.00	46,200.00
42,000,001.00	43,000,000.00	47,300.00
43,000,001.00	44,000,000.00	48,400.00
44,000,001.00	45,000,000.00	49,500.00
45,000,001.00	46,000,000.00	50,600.00
46,000,001.00	47,000,000.00	51,700.00
47,000,001.00	48,000,000.00	52,800.00
48,000,001.00	49,000,000.00	53,900.00
49,000,001.00	50,000,000.00	55,000.00
50,000,001.00	51,000,000.00	56,100.00
51,000,001.00	52,000,000.00	57,200.00
52,000,001.00	53,000,000.00	58,300.00
53,000,001.00	54,000,000.00	59,400.00
54,000,001.00	55,000,000.00	60,500.00
55,000,001.00	56,000,000.00	61,600.00

قبول کردہ چارجز کا شیڈیول
(اسلامک بینکنگ)

یکم جنوری 2022 سے 30 جون 2022 تک

ضمیمہ (اینکڑ) "اے"

رقم کی حد	تک	فی ماہانہ چارجز یا اس کا حصہ
56,000,001.00	57,000,000.00	62,700.00
57,000,001.00	58,000,000.00	63,800.00
58,000,001.00	59,000,000.00	64,900.00
59,000,001.00	60,000,000.00	66,000.00
60,000,001.00	61,000,000.00	67,100.00
61,000,001.00	62,000,000.00	68,200.00
62,000,001.00	63,000,000.00	69,300.00
63,000,001.00	64,000,000.00	70,400.00
64,000,001.00	65,000,000.00	71,500.00
65,000,001.00	66,000,000.00	72,600.00
66,000,001.00	67,000,000.00	73,700.00
67,000,001.00	68,000,000.00	74,800.00
68,000,001.00	69,000,000.00	75,900.00
69,000,001.00	70,000,000.00	77,000.00
70,000,001.00	71,000,000.00	78,100.00
71,000,001.00	72,000,000.00	79,200.00
72,000,001.00	73,000,000.00	80,300.00
73,000,001.00	74,000,000.00	81,400.00
74,000,001.00	75,000,000.00	82,500.00
75,000,001.00	76,000,000.00	83,600.00
76,000,001.00	77,000,000.00	84,700.00
77,000,001.00	78,000,000.00	85,800.00
78,000,001.00	79,000,000.00	86,900.00
79,000,001.00	80,000,000.00	88,000.00
80,000,001.00	81,000,000.00	89,100.00
81,000,001.00	82,000,000.00	90,200.00
82,000,001.00	83,000,000.00	91,300.00
83,000,001.00	84,000,000.00	92,400.00
84,000,001.00	85,000,000.00	93,500.00
85,000,001.00	86,000,000.00	94,600.00
86,000,001.00	87,000,000.00	95,700.00
87,000,001.00	88,000,000.00	96,800.00
88,000,001.00	89,000,000.00	97,900.00
89,000,001.00	90,000,000.00	99,000.00
90,000,001.00	91,000,000.00	100,100.00
91,000,001.00	92,000,000.00	101,200.00
92,000,001.00	93,000,000.00	102,300.00
93,000,001.00	94,000,000.00	103,400.00
94,000,001.00	95,000,000.00	104,500.00
95,000,001.00	96,000,000.00	105,600.00
96,000,001.00	97,000,000.00	106,700.00
97,000,001.00	98,000,000.00	107,800.00
98,000,001.00	99,000,000.00	108,900.00
99,000,001.00	100,000,000.00	110,000.00
Over 100,000,000		See Note 2 below

نوٹس:

1. اگر قبول کردہ رقم 500,000 روپے سے کم ہے تو کم از کم چارجز 1000 روپے ہوں گے۔
2. مجاز اتھارٹی سے منظوری حاصل کرنے کے بعد کلائنٹ کے تجارتی کاروبار کی بنیاد پر اس کے ساتھ بات چیت سے مشروط ہے۔
3. قبول کردہ رقم کی شرح کے حوالے سے صارفین کو قبول کردہ چارجز کے بارے میں ہدایات دی جاسکتی ہیں۔ اس شرح کا انحصار مجاز اتھارٹی کی منظوری پر ہے۔

ضمانت کردہ چارجز کا شیڈیول (اسلامک بینکنگ)

یکم جنوری 2022 سے 30 جون 2022 تک

ضمیمہ (اینکڑ) "بی"

نئی سہ ماہی چارجز یا اس کا حصہ	تک	ضمانتی رقم کی حد
Amount Upto	تک	سے
2,000.00	500,000.00	500,001.00
2,600.00	800,000.00	800,001.00
3,600.00	1,000,000.00	1,000,001.00
4,900.00	1,500,000.00	1,500,001.00
6,900.00	2,000,000.00	2,000,001.00
8,800.00	2,500,000.00	2,500,001.00
10,700.00	3,000,000.00	3,000,001.00
12,500.00	3,500,000.00	3,500,001.00
14,400.00	4,000,000.00	4,000,001.00
16,200.00	4,500,000.00	4,500,001.00
18,000.00	5,000,000.00	5,000,001.00
19,800.00	5,500,000.00	5,500,001.00
21,200.00	6,000,000.00	6,000,001.00
22,600.00	6,500,000.00	6,500,001.00
23,900.00	7,000,000.00	7,000,001.00
25,200.00	7,500,000.00	7,500,001.00
26,300.00	8,000,000.00	8,000,001.00
27,400.00	8,500,000.00	8,500,001.00
28,400.00	9,000,000.00	9,000,001.00
29,300.00	9,500,000.00	9,500,001.00
30,200.00	10,000,000.00	10,000,001.00
33,200.00	12,500,000.00	12,500,001.00
40,500.00	15,000,000.00	15,000,001.00
47,900.00	17,500,000.00	17,500,001.00
55,200.00	20,000,000.00	20,000,001.00
62,500.00	22,500,000.00	22,500,001.00
69,800.00	25,000,000.00	25,000,001.00
77,000.00	27,500,000.00	27,500,001.00
84,300.00	30,000,000.00	30,000,001.00
91,600.00	32,500,000.00	32,500,001.00
98,800.00	35,000,000.00	35,000,001.00
106,000.00	37,500,000.00	37,500,001.00
112,600.00	40,000,000.00	40,000,001.00
119,000.00	42,500,000.00	42,500,001.00
125,300.00	45,000,000.00	45,000,001.00
131,600.00	47,500,000.00	47,500,001.00
137,700.00	50,000,000.00	50,000,001.00
143,800.00	52,500,000.00	52,500,001.00
149,700.00	55,000,000.00	55,000,001.00
155,500.00	57,500,000.00	57,500,001.00
161,300.00	60,000,000.00	60,000,001.00
166,900.00	62,500,000.00	62,500,001.00
172,400.00	65,000,000.00	65,000,001.00
177,900.00	67,500,000.00	67,500,001.00
183,200.00	70,000,000.00	70,000,001.00
188,500.00	72,500,000.00	72,500,001.00
193,600.00	75,000,000.00	75,000,001.00
198,600.00	77,500,000.00	77,500,001.00
203,600.00	80,000,000.00	80,000,001.00
208,400.00	82,500,000.00	82,500,001.00
213,100.00	85,000,000.00	85,000,001.00
217,800.00	87,500,000.00	87,500,001.00
222,300.00	90,000,000.00	90,000,001.00
226,800.00	92,500,000.00	92,500,001.00
231,100.00	95,000,000.00	95,000,001.00
235,300.00	97,500,000.00	97,500,001.00
239,500.00	100,000,000.00	97,500,001.00

نوٹس:

- 100 ملین روپے سے زائد تمام ضمانتی رقم پر ہر 1 ملین روپے کے لیے اضافی سروس چارجز 2500 روپے لاگو ہوں گے (نئی سہ ماہی یا اس کا حصہ)
- صارف کے لئے مندرجہ بالا چارجز پر رعایت، مجاز اتھارٹی کی منظوری سے مشروط ہے۔
- صارفین کو ضمانت کے چارجز ضمانتی رقم کی شرح کے اعتبار سے بھی بتائے جاسکتے ہیں۔ اس شرح کا انحصار مجاز اتھارٹی کی منظوری پر ہے۔
- دی گئی ضمانت پر کمیشن صرف اجراء کے وقت وصول کیا جائے گا۔